

بگ برامپٹن آرٹسٹ سپیس سروے

برامپٹن، آن (23 اگست 2021) – سٹی آف برامپٹن کی آرٹس، کلچر اینڈ کریئٹیو انڈسٹری ڈیولپمنٹ ایجنسی (ACCIDA) کی جانب سے مقامی فنکاروں اور تنظیموں سے گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ بگ برامپٹن آرٹسٹ سپیس سروے کو مکمل کریں اور شہر بھر میں دستیاب سستی جگہوں تک رسائی کے بارے میں اپنی فیڈبیک سے آگاہ کریں۔ ورکشاپس کی تیاری، پیشکش، سہولت فراہم کرنے، دفاتر قائم کرنے، اور اپنے کام کو ڈسپلے اور فروخت کرنے کے لیے مناسب جگہ تک رسائی برامپٹن کی آرٹ کمیونٹی کی تخلیقی صلاحیتوں اور کامیابیوں کے لیے انتہائی اہم ہے، خاص طور پر جبکہ یہ شعبہ کووڈ-19 کے اثرات سے بحالی کی جانب گامزن ہے۔

بگ برامپٹن آرٹسٹ سپیس سروے بروز جمعہ، مورخہ 24 ستمبر تک دستیاب رہے گا۔ تمام شرکت کنندگان کے ناموں کو کریز آرٹس سپلائیز (Curry's Art Supplies) کا \$100 کا ایک گفٹ سرٹیفیکیٹ جیتنے کے لیے قرعہ اندازی میں شامل کیا جائے گا اور تمام فنکاروں اور فنون لطیفہ کی تنظیموں کو اس میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے۔

ACCIDA ایک منفرد تنظیم ہے جو سٹی آف برامپٹن کی زیر نگرانی مختلف پروگراموں، خدمات اور وسائل کے ذریعے اس شعبے کو فروغ دینے، اس کی خوشیاں منانے، وکالت کرنے اور اس کو باہم مربوط کرنے پر مرکوز ہے۔ آرٹس کمیونٹی کی جانب سے حاصل ہونے والی فیڈبیک سے پروگرامنگ اور معاونت میں مدد ملے گی، بشمول تخلیقی کاموں کے لیے درکار موزوں جگہ کے بارے میں بھی ان کے خیالات سامنے آئیں گے۔

ACCIDA کی جانب سے بروز جمعرات، 26 اگست کو 6:30 سے رات 8 بجے تک فنکاروں کے لیے جگہ کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک آن لائن آرٹسٹ کمیونٹی گول میز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس مفت تقریب میں ماہرین کا ایک پنل اکٹھا ہو گا جس میں سٹی آف برامپٹن کی پلاننگ اینڈ اربن ڈیزائن ٹیموں کے نمائندگان، محققین اور تھیٹر پروڈیوسرز شامل ہوں گے تاکہ اس بات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے کہ آرٹسٹ کمیونٹیز کی اعانت اور ان کے لیے جگہوں کی دستیابی میں کیسے معاونت کی جا سکتی ہے۔ تفصیلات اور رجسٹر ہونے کے لیے، ملاحظہ کریں: accida.ca

اقتباسات

"برامپٹن کے فنون اور ثقافت کے فروغ اور انہیں معاونت فراہم کرنے میں ACCIDA ایک انتہائی اہم کردار ادا کرے گی۔ ہمارے فنکاروں اور فنون کی تنظیموں کی معاونت کے لیے اس فیڈبیک کا حصول انتہائی ناگزیر ہے، تاکہ آگے چل کر ہم اپنی تخلیقی کمیونٹی کو زیادہ با اختیار بنا سکیں۔ میں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اس میں حصہ لیں اور اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں!"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"میں ACCIDA کو آرٹس کمیونٹی کی فلاح و بہبود میں مصروف عمل دیکھنے کے لیے انتہائی پرجوش ہوں۔ ایک پھلتا پھولتا، پراعتماد اور قابل قدر تخلیقی منظر نامہ تخلیق کرنے کا ان کا ویژن انتہائی امید افزا ہے اور اس کا کردار شہر اور رہائشیوں اور کاروباری اداروں کی روزمرہ کی زندگیوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو گا۔"

- رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ وائس چیئر، کارپوریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن کی فنون، ثقافت اور تخلیقی صنعت ہمارے شہر کے ایک فعال اور خوبصورت تنوع کا ایک لازمی جزو ہے۔ ان کا کام ہمارے مقامی فنکاروں اور فنون کی تنظیموں کو معاونت فراہم کرے گا، تاکہ وہ برامپٹن کو اپنا گھر کہتے ہوئے فخر محسوس کریں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

پرابجوت کینتھ
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca